

پناہ گزین کیمپ میں ذاتی تفصیلات پر کارروائی کے بارے میں معلومات

پناہ طلب کرنے والے شخص کے طور پر آپکو اچھی خبرگیری میسر ہو گی۔

کیمپ اور UDI آپکی ان ذاتی تفصیلات پر کارروائی کر سکتے ہیں جو ان مقاصد کیلئے ضروری ہیں کہ

- آپکو کیمپ میں داخلہ پیش کیا جائے
- آپکو ان پیسوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے جو لینا آپکا حق ہے
- اگر آپ نابالغ پناہ کے درخواست گزار ہیں تو آپکی اچھی دیکھ بھال کی جائے
- آپکے رہائشی کیمپ میں آپ کا اس طرح خیال رکھا جائے جو آپ کیلئے موزوں ہے
- اگر آپکی پناہ کی درخواست پر انکار ہو جائے اور آپکو اپنے وطن لوٹنا پڑے تو آپکی خبرگیری کی جائے

یہ ممکن بنانے کیلئے ضروری ہے کہ، UDI کی نمائندگی کرتے ہوئے، کیمپ آپکے بارے میں بعض ذاتی تفصیلات رجسٹر اور استعمال کرے۔

جب ہم آپکی ذاتی تفصیلات پر کارروائی کرتے ہیں تو ہم یہ ان قوانین اور ضوابط یعنی امیگریشن کے قانون، انتظامیہ کے قانون اور ذاتی تفصیلات کے قانون کے احاطے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں جو ہمارے کاموں اور فرائض کا تعین کرتے ہیں۔ کیمپ اور UDI پر رازداری کی پابندی ہے اور ہم آپکی ذاتی تفصیلات صرف اس صورت میں آگے مہیا کر سکتے ہیں کہ قانون ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہو یا آپ اس پر رضامند ہوں۔

آپ اس بارے میں معلومات کیلئے کیمپ سے رابطہ کر سکتے ہیں:

- کیمپ نے آپکے بارے میں کونسی ذاتی تفصیلات رجسٹر کی ہیں
- یہ تفصیلات کہاں سے حاصل کی گئی ہیں
- یہ تفصیلات کیسے استعمال کی جا رہی ہیں
- ان تفصیلات کی حفاظت کا کیا انتظام ہے

آپ تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپکے بارے میں جو تفصیلات غلط ہیں، وہ درست کی جائیں یا تلف کر دی جائیں۔ آپ کیمپ یا UDI سے اپنی ذاتی تفصیلات کا پرنٹ آؤٹ بھی مانگ سکتے ہیں۔

آپ ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن (UDI) کی پرائیویسی سٹیٹمنٹ میں یہ مزید تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ UDI آپکی ذاتی تفصیلات کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آپکو udi.no پر ملے گی۔

دستخط اور تصدیق

□ اس پرچے میں جو معلومات دی گئی ہیں، مجھے وہ سمجھ آ گئی ہیں۔